



سوال

(188) کیا احتلام انخون اور قے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں روزہ کی حالت میں تھا کہ مسجد میں سو گیا، بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے۔ کیا اس سے روزہ پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ یاد رہے میں نے غسل نہیں کیا اور نماز غسل کے بغیر پڑھ لی تھی۔ اک مرتبہ میرے سر پر پتھر لگا جس کی وجہ سے خون بہہ نکلا تھا تو کیا اس خون کے نکلنے کی وجہ سے مجھے روزہ توڑ دینا چاہیے تھا؟ کیا قے آجانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ امید ہے رہنمائی فرمائیں گے!

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے لیکن خروج منی کی صورت میں غسل جنابت کرنا ہوگا کیونکہ نبی کریم ﷺ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر محتلم پانی یعنی منی کو دیکھے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔

غسل کے بغیر آپ نے جو نماز پڑھ لی تو یہ ایک بہت بڑی غلطی اور منکر عظیم ہے لہذا اس نماز کو دوبارہ پڑھئے اور اللہ سبحانہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ بھی کیجئے۔

سر پر پتھر لگنے سے جو خون نکل آیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جو قے اختیار و ارادہ کے بغیر آجائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”جسے غیر اختیاری طور پر قے آجائے، اس پر قضا لازم نہیں ہے اور جو خود قے کرے اس پر قضا لازم ہے۔“ (احمد و اصحاب سنن اس کی سند صحیح ہے)

مقالات و فتاویٰ ابن باز

صفحہ 285

محدث فتویٰ